

برائے فوری اجراء

تیار رہنے میں ہم سب اپنا کردار ادا کرتے ہیں سٹی آف برامپٹن 3-9 مئی 2020 تک ایمرجنسی پریپنڈنٹس ویک منانے گا

برامپٹن، آن (4 مئی 2020) - 3 سٹی تا 9 مئی کے دوران ایمرجنسی پریپنڈنٹس ویک (EPW) کا انعقاد کرے گا۔ اس سال، کووڈ-19 کی وباء کو مدنظر رکھتے ہوئے سٹی اپنے رہائشیوں کو یاددہانی کرانا چاہتا ہے کہ اب اس بات کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے کہ محفوظ اور تیار رہنے میں ہم سب اپنے حصے کا کردار ادا کرتے ہیں۔

رہائشی مطلع رہ کر، جسمانی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے اور پیل پبلک ہیلتھ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد فراہم کر کے اپنے آپ کو اور اپنی کمیونٹی کو محفوظ بنا رہے ہیں۔ سٹی رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ برامپٹن کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیں۔

سٹی اپنی ایمرجنسی مینجمنٹ ٹیم اور اپنی کمیونٹی کے ان شراکت داروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے جو اس وقت ہماری منصوبہ بندی پر عمل درآمد کر رہے ہیں اور کووڈ-19 کی ہنگامی صورت حال کے دوران ہماری کمیونٹی کو محفوظ بنانے کے لیے مل جل کر کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔

ہر سال، EPW ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب رہائشیوں کو ہنگامی حالات میں تیار رہنے کے لیے رہنما کا جائزہ لینے اور ہر طرح کے ممکنہ ہنگامی حالات بشمول شدید موسم، سیلاب اور بجلی کی رسد میں تعطل وغیرہ جیسے ہنگامی حالات میں تیار رہنے کی یاددہانی کرائی جاتی ہے۔ مزید جاننے کے لیے، ملاحظہ کریں www.brampton.ca/prepared

اقتباسات

"کووڈ-19 کے خلاف ہمارے ردعمل کے دوران اپنی کمیونٹی کی صحت و حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سٹی کی پوری ٹیم کے علاوہ ہمارے شراکت داروں نے انتہک محنت کی ہے۔ ہر کسی کو مطلع رکھنا اور اپنی کاروائیوں کو باہم مربوط رکھنا کوئی معمول کام نہیں ہوتا۔ میں اپنے برامپٹن ایمرجنسی مینجمنٹ آفس اور ریجن آف پیل کے ایمرجنسی مینجمنٹ کے عملے کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی کوششوں کی تعریف بھی کرنا چاہوں گا جنہوں نے یہ یقینی بنایا ہے کہ ہم سب کووڈ-19 کے پھیلاؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے آپس میں مل جل کر کام کریں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب نے اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے۔ جسمانی فاصلہ بندی پر عملدرآمد کرتے ہوئے وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد دے کر ہماری کمیونٹی کو محفوظ بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کرنے پر ہم اپنے شہریوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔"

- رویہ سینٹوس، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5: چیئر، کمیونٹی سروسز کمیٹی، سٹی آف برامپٹن

"ہمارے شہر کا کووڈ-19 کے خلاف ہموار ردعمل ہمارے شراکت داروں کے ساتھ مل کر ہمارے عملے کی جانب سے تیاری اور بہترین مشق کا نتیجہ ہے۔ ہنگامی مشقیں کرنے سے لے کر مسلسل تیاریوں اور آگاہی کی سرگرمیوں تک، ہمارا برامپٹن ایمرجنسی مینجمنٹ آفس اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں کسی بھی ہنگامی صورتحال کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے تمام شعبے اپنی جگہ پر درست اور موزوں طور پر کام کر رہے ہوں۔"

- جیف بومین، سٹی کونسلر، وارڈز 3 اور 4: ممبر، برامپٹن ایمرجنسی مینجمنٹ پروگرام کمیٹی، سٹی آف برامپٹن

"اس مرتبہ کا ایمرجینسی پریپیئرڈنیس ویک پہلے کی طرح کا نہیں ہو گا کیونکہ اس دوران ہماری ٹیم کووڈ-19 کی وباء سے بھی نبرد آزما ہو گی۔ ہماری ایمرجینسی منیجمنٹ ٹیم کی نہ ختم ہونے والی منصوبہ بندی اور مربوط کاوشوں کے ساتھ ساتھ ہمارے رہائشیوں اور کاروباری اداروں کی اس وائرس سے نمٹنے کے لیے ہم سے کام کرنے کی وابستگی کا شکریہ، ہم ایک اچھے مستقبل کے منتظر ہیں اور شہر کو بالآخر ایک محفوظ طریقے سے دوبارہ کھولنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ سب لوگ تیار رہیں اور اپنی کمیونٹی کی حفاظت اور ابھرنے کی قوت کو یقینی بنانے کے لیے نگہداشت صحت اور ایمرجینسی کے ماہرین کی سفارشات پر سختی سے عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca